```
جواب
                                                                                                                                                                                                                                                                                 لحدلتٰد.
                                                                                            رام کی ایک جماعت نے مستحب قرار دیاہے کہ کسی جنبی یعنی ایسی عورت سے جس سے آدمی کی رشتہ داری نہ ہواور نہ ہی کوئی نسب نامہ ہوسے شادی کرنامستحب ہے، اوراس کی گی ایک علتیں بیان کی مبن :
                                                                                                                                                                          ہوگی، یعنی اس کی صفات اچھی ہونگی اوراس کا بدن قوی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے چیاؤں اور ہاموؤں کے اوصاف نہیں لے گا.
                                                                                                                                                                                                                     کے مابین علیحدگی کا خدشہ جاتا رہے گا ، کیونکہ علیحدگی میں قطع رحمی ہوتی ہے .
                                                                                                                                                                                                                                                                   نصاف میں درج ہے:
                                                                                                                                                                                   " دین والی اور زیادہ بچے جننے والی اور کنواری وحب ونسب والی اجنبی عورت اختیار کرنامسخب ہے "انتهی
                                                                                                                                                                                                                                                        مطالب اولی النحی میں درج ہے:
                                                                                                                      رت ہو" کیونکہ اس کی اولاد نجیب ہوگا، اوراس لیے بھی کہ علیمہ گی کا فدرشہ ختم ہوجا ئیگا، کیونکہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جب علیمہ گی ہوتو پہ قطع رحمی کا باعث سبنے گا جو کہ حرام ہے.
                                                                                                                                                        یک قول پر بھی ہے کہ : ابنتی اور غیر رشتہ دار عور تین زیادہ نجیب اولاد پیدا کرتی ہیں ، اورہ بچاکی بیٹیاں زیادہ صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں "انتهی
                                                                                                                                                                                                                                                                           ن(9/5).
                                                                                                                                                                                                                                                 رامام نووی رحمه الله المضاج میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                " دیندار نسب والی جوکہ رشتہ دار نہ ہواور کنواری لڑکی اختیار کرنا مستب ہے "
                                                                                                                                                                                                                                                   ر جلال المحلی اس کی شرح میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                     " (اس کی قرببی رشته دار نہ ہو) یعنی وہ اس سے اجنبی ہویا پھر دور کی رشته دار ہو. . . اور دور کی رشته دار کسی اجنبی عورت سے زیادہ بہتر ہے "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                      .(208/3);
، کماس مسئلہ میں کوئی نص نہیں ہے لیکن انم صالحت کی بنا پر یہ فتھاء کا اجتقادہے ، اوریہ چیزا شخاص اور رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے میں مخلف ہوگی ، ہوستتا ہے کوئی شخص یہ رائے رکھے کہ اس کارشتہ داری کرنے میں ہی اس عورت اوراس کے خاندان کی حفاظت ہے ، یا پھروہ لڑکی
برنکاح جائز ہے ،اور پھر نبی کریم صلی الند علیہ وسلم نے بھی توزیب بنت جش رضی الند تعالی عنبا سے شاد ی کی جو کہ ان کی چو پھی کی بیٹی تغییر ، اور نبی کریم صلی الند علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی الند تعالی عنبا کی خالہ کے بیٹی تغیر ، اور علی رضی الند تعالی عنب نے فاطمہ رض
                                                                                                                                                                                   ، عشمین رحمہ اللہ نے فقعاء کی علت یعنی بچر نجیب ہوگا ، اور قطع رحمی کا خدرشہ ہے بیان کرنے کے بعد کستے ہیں :
                                                                           نے جو کہا ہے وہ صحح ہے ، لیکن جب رشتہ داروں میں کوئی ایسی لڑکی ہوجود و سرے اعتبارات ( یعنی دین اور حب و نسب اور جمال ) میں اس سے بستر ہو تو پیر اغضل ہوگی ، اور جب دونوں برابر ہوں تو پھر اجنبی اولی اوراغشل ہے .
                                                                                                           یں یہ بھی ہے کہ : اگر چھاکی میٹی ایک دین والی اور اخلاق کی مالک عورت ہو، اور اس شخص کے حالات اور امکانات نرمی ومعاونت کے متاج ہوں تو ہلاشک اس میں بہت بڑی مصلحت ہے.
                                                                                                                       لیے انسان اس معاملہ میں مصلحت کو ید نظر رکھے کیونکہ مسئلہ میں کوئی ایسی نفس نہیں جس کولیا جائے ، اسی لیے اسے اس پر عمل کرنا چاہیے جس میں زیادہ مصلحت دیکھتا ہے "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                      خ(123/5).
                                                                                                                                                                                                                                 ستقل فتوی کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذبل سوال کیا گیا:
                                                                                                                                                                                     نة داروں میں شادی کرنے کرے متعلق کیا رائے ہے ، اور کیا ایسا کرنا اولاد کوایا بچ کرنے کا باعث بنتا ہے ؟
                                                                                                                                                                                                                                                              یعٹی کے علماء کا جواب تھا:
      ں عدیث نہیں کمتی جورشتہ داروں میں شادی کرنے سے روکتی ہو، اور جس سے یہ علم ہوکہ رشتہ داروں میں شادی کرنااپاچ اولاد پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ سب کچھ تواللہ بجانہ و تعالی کی قشا وقد رسے ہوتا ہے، نہ کہ رشتہ داروں میں شادی کرنے کے باعث جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہوچکا ہے "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                      .(13/18).
```

قریمی رشتہ دارلزگی سے شادی کرناافنل ہے یا دور کی رشتہ دارلزگی سے شادی کرنا